

* گرنا بڑی بات نہیں، مگر دوبارہ نہ اٹھنا بڑی بات ہے۔

* اپنی ناکامیوں کی وجہ میں خود یوں۔

* دوسروں پر الزام نہیں لگانا۔

* زندگی کو بدلنا ← No شکایت + ذمہ داری اٹھانا۔

* ذمہ داری 99% نہیں بلکہ 100% اٹھانی ہے۔

* اپنے بوجھ بھر کو دوسروں پر نہیں لادنا، خود اٹھانا ہے۔

* وقت ملت نہیں دیتا، دینے کی ذمہ داری لینی ہے تو آج ہی
فہلہ کرنا ہوگا۔

* بہانوں کی زنجیریں توڑنا۔

* حالات کا غلام نہیں بننا بلکہ حالات کو خود کا تابع بنانا۔

* میں نے کیا غلطی کی؟ ← اس کی وجہ سے خود ڈھونڈنی۔

* آدھی ذمہ داری لیتے سے آدھی زندگی بھی نہیں بدلے گی
اور پوری ذمہ داری لیتے سے پوری زندگی نہیں بدلے گی بلکہ
کچھ وقت ڈٹے رہنے کے بعد اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

— ثابت قدم رہنا۔

— سستی نہیں کرنا۔

— فہلہ کرنے کے آگے بڑھنا۔

— وقت کا صحیح استعمال کرنا اور planning کرنا۔

— خود احتسابی (— + — = +)

** اگر کوئی غلطی کی تو میرا قصور اور اچھا کیا تو اللہ کا فضل اور توفیق۔